

لسماع هذا	-	یہ سن کر
الواجب	-	ضروری
تُخْبِرُ	-	تم بتاتے ہو یا بتاؤ گے، تمہیں بتانا چاہیے
لم أحب	-	میں نے نہیں چاہا، مجھے پسند نہیں
إزعاج	-	تنگ کرنا، تکلیف دینا
بِمَاذَا شَعَرْتَ	-	تم نے کیا محسوس کیا، تمہیں کیا ہوا
وَجُعُ بِالرَّاسِ	-	سر درد
وَجُعُ بِالْمَعْدَةِ	-	پیٹ درد
ضَعِيفَةٌ	-	کمزور
يُسْرَنِي	-	مجھے خوش ہے
دَعْنِي	-	مجھے چھوڑو، اجازت دو
اراك ثانية	-	پھر ملیں گے
اللقاء	-	ملاقات
سأراك	-	عنقریب دیکھوں گا، ملوں گا
بِخَاطَرِكَ	-	بے خوفی



المحادثة بين الاب والبنت

- ابراهيم : ماذا تفعلين يا بنتى -
- سعاد : أكوئى الشياى التى غسلناها امس
- ابراهيم : أكوئى القميص الابيض؟
- سعاد : نعم، كوئته -
- ابراهيم : والقميص الاخضر؟
- سعاد : لا، لم اكوه بغد، سأكويه الآن ان شاء الله -
- ابراهيم : المناديل أكوئتها؟
- سعاد : امى كوئتها فى الصباى -
- ابراهيم : أتريدى أن تقولى لى شيئاً -
- سعاد : نعم، إن زميلتى سلوى دعتنى الى بيتها هذا المساء فارجو

أن تسمح لي بالذهاب الى بيتها بعد صلاة العصر-

ابراهيم : اذهبي وارجعي بعد صلاة المغرب-

آمنه : يا أبا محمد تعال هنا وانظر، ان محمداً يجرى على السلم

أخشى أن يقع-

ابراهيم : لا تجر، يا محمد- تعال هنا- ما هذا بيمينك؟ أرني ... إرم

هذا- هذا تراب-

(يدخل محمود)

محمود : السلام عليكم!

ابراهيم : وعليكم السلام- جئت اليوم متأخراً يا محمود، فما السبب؟

محمود : شكوت اليوم أحد زملائي الى المدير- فطلبنا الى مكتبة

للتحقيق-

ابراهيم : لم شكوت؟

محمود : لانه دائماً يأخذ كُتبي ودفاتري ويطوى اوراقها-

ابراهيم : ما هذه الحلاوى التى معك؟ أهدية هذه ام اشتريتها؟

محمود : اشتريتها لأننى أريد أن ادعو ثلاثة من زملائي الى بيتنا غداً-

ابراهيم : أدهم لتناول العشاء بعد غدٍ، فسيكون عمل موسى

ايضاً معنا إن شاء الله-

حل لغات

اکوی	(ض)	-	میں پریس کر رہا ہوں یا کروں گا
غسلنا	(ض)	-	ہم نے دھویا
المنادیل، واحد منديل		-	رومال
زميلة، جمع زميلات		-	سہیلی
دعت	(ن)	-	اس نے بلایا
ارجو	(ن)	-	میں امید کرتا ہوں یا کرتی ہوں
تسمح	(ف)	-	آپ اجازت دیتے ہیں / دیں
تعال		-	تو آ، آؤ، آئیے
السَّلَام		-	سیڑھی
اخشى	(س)	-	میں ڈرتا ہوں
يقع	(ف)	-	وہ گرتا ہے، پڑتا ہے / گرے گا، پڑے گا
شكوت	(ن)	-	میں نے شکایت کی
المدير		-	پرنسپل
مكتب		-	آفس
ياخذ	(ن)	-	وہ لیتا ہے
دفاتر، واحد دفتر		-	کاپی
حلاوى، واحد حلوى		-	شیرینی
اشتریت (افتعال)		-	تو نے خریدا
لتناول العشاء		-	رات کے کھانے کے لیے



الكهرباء

- ١- تسير الكهرباء فى الاسلاك-
- ٢- الكهرباء نوع من الوقود- والوقود الاخرى هى الفحم والنفط ...
- ٣- تجعل الكهرباء الليل نهارا-
- ٤- للكهرباء منافع كثيرة منها انها لا توسخ ااثا ولا تفسد هواء ولا تطفئها الرياح والاعاصير-
- ٥- توجد الكهرباء فى جسمى-
- ٦- جرب بنجامين فرانكلين وهو عالم امريكى وجود الكهرباء فى البرق-
- ٧- اخترع اديسون المصباح الكهربائى-
- كان يعمل مخترع المصباح الكهربائى ليلا ونهارا فى معمله-



تستخدم الكهرباء في اضاءة المنازل والمتاجر والمصانع والدوائر الحكومية وكذلك تستخدم في كى الملابس وطهو الطعام وتسخين الماء والتدفئة وادارة المطابع وآلات النسيج وتحريك المراويح والمصاعد والاجراس وغيرها من الاشياء۔

حل لغات

تسیر	-	دوڑتی ہے
الكهرباء	-	بکلی
الاسلاك، واحد سلك	-	تار
الوقود	-	ایندھن
توسخ	-	گندہ کرتا ہے
لا تطفأ	-	بجھاتی نہیں ہے
الرياح	-	ہوا
الاعاصير	-	آغصی
البرق	-	بکلی، چمک
اخترع	-	ایجاد کیا
المصباح الكهربائي	-	بلب
مخترع	-	موجد، ایجاد کرنے والا



معمل	-	لیبارٹری
منزل، جمع منازل	-	گھر، مکان
المتجر، جمع المتاجر	-	دوکان
المصنع، جمع المصانع	-	کارخانہ
کتی	-	پریس کرنا
طہو	-	پکانا
تسخین	-	گرم کرنا
الدوائر الحكومية	-	سرکاری دفاتر
المطبخ، جمع المطابخ	-	پریس
المروحة، جمع المراويع	-	پنکھا
المصاعد	-	اسکلیٹر، لیفٹ
اجراس، واحد جرس	-	گھنٹی، بیل

=====



مولانا يحيى على الصادق قفوري

السَّيِّخُ الْعَالَمُ الْمُحَدِّثُ يَحْيَى عَلِيٌّ بْنُ الْهَيْبِ بَخْشِ بْنِ هَذَا آيَتٍ عَلَى الْجَعْفَرِيِّ الْمَهْدَانَوِيِّ ثُمَّ الصَّادِقِ قَفُورِيِّ أَحَدِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ الْمُجَاهِدِينَ، وَلَدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ وَقَرَأَ الْعِلْمَ عَلَى صَنُوهِ السَّيِّخِ أَحْمَدَ اللَّهِ وَعَلَى السَّيِّخِ وَلَايَتِ عَلِيٍّ وَأَخَذَ الطَّرِيقَةَ عَنْ السَّيِّخِ وَلَايَتِ عَلِيٍّ الْمَذْكُورِ، وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ عَنْهُ، ثُمَّ تَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ وَالتَّذْكِيرِ، وَكَانَ لَهُ الْيَدُ الطَّوْلَى فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَمَهَارَةٌ تَامَةً فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَوَارِيثِ وَالْحِسَابِ -

وَكَانَ آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَالرِّضَاءِ بِالْقَضَاءِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّمَاحَةِ، ثُمَّ عَادَ مَعَهُ إِلَى الْهِنْدِ وَاشْتَغَلَ بِالتَّدْرِيسِ وَالتَّذْكِيرِ مَدَّةً، ثُمَّ سَافَرَ مَعَهُ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَمَّا تَوَفَّى شَيْخُهُ عَادَ إِلَى الْهِنْدِ

وَعَكَفَ عَلَى التَّدْرِيسِ وَالتَّذْكِيرِ زَمَانًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَبِضَ عَلَيْهِ الْإِنْكَلِيلُ
بِسَبَبِ الْإِعَانَةِ لِمَنْ كَانُوا مِنْ غَزَاةِ الْهِنْدِ مِنْ أَصْحَابِ السَّيِّدِ أَحْمَدَ
رَحِمَهُ اللَّهُ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَآلْفَ وَأَلْفَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَائِبِ مَا لَا
يُحْصِيهَا الْبَيَانُ، وَكَانَ يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ وَيَنْشُدُ :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَىِّ شَيْءٍ كَانَ فِي اللَّهِ مُصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ

يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شُلُومُوعِ

ثُمَّ اصْدُرْتَ الْمُخَكَّمَةَ حَكْمَهَا بِالشَّقِيقِ، فَأَبْدَى شُرُورَهُ وَفَرَحَهُ

بِذَلِكَ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ الْمُؤَبَّدِ إِلَى جَزِيرَةِ "الْدَمَن" وَتَوَفَّى هُنَاكَ

سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَآلْفَ، كَمَا فِي الدَّرِّ الْمَشْهُورِ -

(نزّهة الخواطر، جلد ٤)